

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹ اور روح القدس ک
نام پر

آمین
سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا
فضل ، اور خدا کی محبت ، اور
روح القدس کی میل جول آپ سب
ک ساتھ رہیں

اور اپنی روح ک ساتھ
تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئی م
اپنے گناہوں کو تسلیم کریں ، اور
اس طرح مقدس اسرار کو منان
ک لئے خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا
ہوں اور آپ ک لئے ، میرے بھائیو
اور بہنیں ، ک میں نے بت گناہ کیا
، میرے خیالات میں اور میرے
الفاظ میں ، میں نے کیا کیا اور
میں کیا کرنے میں ناکام رہا ہوں ،
میری غلطی ک ذریعے ، میری
غلطی ک ذریعے ، میری انتہائی
تکلیف دہ غلطی ک ذریعے ؛ لہذا
میں مبارک مریم کو ہمیشہ ک
ویرگین سے پوچھتا ہوں ، تمام
فرشتے اور سنت ، اور آپ ، میرے
بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے خداوند
مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ، مار
گناہوں کو معاف کرے ، اور ہمیں
لازوال زندگی میں لائیں

آمین

Basque (euskara)

Sarrera errituak

Gurutzearen seinale

Aitaren eta Semearen eta Espiritu
Santuaren izenean.

Amen

Agur

Jesukristo gure Jaunaren grazia, eta
Jainkoaren maitasuna, eta Espiritu
Santuaren jaunartzea Zurekin egon.

Eta zure espirituarekin.

Lege penitentziala

Senideak (anai-arrebak), aitortu dezagun
gure bekatuak, Eta, beraz, prestatu
misterio sakratuak ospatzeko.

Jainko ahalguztiduna aitortzen dut Eta
zuri, nire anai-arrebak, asko bekatu egin
dudala, Nire pentsamenduetan eta nire
hitzetan, egin dudanean eta egin dudan
horretan, nire erruaren bidez, nire
erruaren bidez, nire erru larrienaren
bidez; Hori dela eta, Mary Betidanik
galdetzen diot, aingeru eta santu
guztiak, Eta zu, nire anai-arrebak, Nire
Jainko Jaunarentzat otoitz egiteko.

Jainko ahalguztidunak erruki izan ditzake
gurean, Barkatu gure bekatuak, eta
eraman gaitzazu betiko bizitzara.

Amen

Urdu (اردو)

کبری

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو.

مسیح، رحم کرو.

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن
م تیری تعریف کرتے ہیں، م آپ
کو برکت دیتے ہیں، م آپ کو
پسند کرتے ہیں، م تیری تسبیح
کرتے ہیں، م تیری عظیم شان کے
لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خُداوند
خُدا، آسمانی بادشاہ، ا خدا، قادر
مطلق باپ خُداوند یسوع مسیح،
اکلوتا بیٹا، خُداوند خُدا، خُدا کا بر،
باپ کا بیٹا، آپ دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہیں، م پر رحم فرما
آپ دنیا کے گناہوں کو دور کرتے
ہیں، ہماری دعا قبول کرو تم باپ
کہ دانتھ بیٹھو، م پر رحم
فرما۔ آپ کے لیے اکیلی ہی مقدس
ہیں، صرف تُو ہی رب صرف
آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس
کے ساتھ، خدا باپ کے جلال میں
آمین

جمع کریں

میں نماز پڑھ دو.

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر .

Basque (euskara)

Horri

Jauna, erruki izan.

Jauna, erruki izan.

Kristo, erruki izan.

Kristo, erruki izan.

Jauna, erruki izan.

Jauna, erruki izan.

Gloria

Gloria Jainkoari gorenean, eta Lurraren
bakea borondate oneko pertsoneri.
Goraipatzen zaitugu, Bedeinkatzen
zaitugu, Zurekin adoratzeko zaitugu,
Glorifikatzen zaitugu, Eskerrik asko zure
aintza handiarengatik ematen dizugu,
Jainko Jauna, zeruko errege, Jainkoa, aita
ahalguztiduna. Jesukristo Jauna, semea
bakarrik sortu zuen, Jainko Jauna,
Jainkoaren Bildotsa, Aitaren semea,
Munduko bekatuak kentzen dituzu, erruki
gaitzazu; Munduko bekatuak kentzen
dituzu, jaso gure otoitza; Aitaren
eskuinaldean eserita zaude, erruki
gaitzazu. Zuretzat bakarrik dira santua,
Zu bakarrik zara Jauna, Bakarrik zaude
altuena, Jesukristo, Espiritu Santuarekin,
Aitaren Jainkoaren aintzinean. Amen.

Bildu

Otoitz egin dezagun.

Amen.

Hitzaren liturgia

Lehen irakurketa

Jaunaren hitza.

Eskerrik asko Jainkoari.

Urdu (اردو)

ذم داری زیور

دوسری پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر

انجیل

رب آپ کے ساتھ و

اور اپنی روح کے ساتھ

کے مطابق مقدس انجیل سے N

ایک پڑھنا

ا رب، تیری شان

خداوند کی انجیل

خداوند یسوع مسیح آپ کی

ستائش کریں

ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنانا والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں میں سے میں ایک خداوند یسوع مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی سے روشنی، سچا خدا سے سچا خدا، پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اُس کے ذریعے تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے لیے اور آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا، اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب ہوا، اس کی موت ہوئی اور اسے دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی اُٹھا صحیفوں کے مطابق و آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا و پھر جلال میں آگے گا زند

Basque (euskara)

Erantzun Salmoa

Bigarren irakurketa

Jaunaren hitza.

Eskerrik asko Jainkoari.

Ebanjelio

Jauna zurekin egon.

Eta zure espirituarekin.

Ebanjelio Santuaren irakurketa N. arabera

Gloria zuri, Jauna

Jaunaren ebanjelioa.

Goraipatu zuri, Jesukristo Jauna.

Fede lanbidea

Jainko bakarrean sinesten dut, Aita ahalguztiduna, Zeruko eta Lurraren Maker, ikusgai eta ikusezinak diren gauza guztietatik. Jesukristo Jaun batean sinesten dut, Jainkoaren seme bakarra, Aitaren aurretik jaio zen adin guztien aurretik. Jainkoa Jainkoarengandik, Argia argitik, benetako jainkoa benetako Jainkoarengandik, Hunk, ez da egin, aitarekin kontsumitu; haren bidez gauza guztiak egin ziren. Guretzat eta gure salbaziorako zerutik jaitsi zen, eta Espiritu Santua Ama Birjinaren Incarnate zen, eta gizon bihurtu zen. Gure mesedetan gurutziltzatu zen Pontius Pilateraren arabera, Heriotza jasan zuen eta lurperatuta zegoen, eta berriro igo zen hirugarren egunean Eskrituren arabera. Zerura igo zen eta aitaren eskuinaldean eserita dago. Berriro etorriko da Glory-n bizidunak eta hildakoak epaitzeko eta bere erreinuak ez du amaierarik izango. Espiritu

Urdu (اردو)

اور مرد کا فیصلہ کرنا اور اس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہو گی میں روح القدس پر یقین رکھتا ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو باپ اور بیٹے سے نکلتا ہے، جو باپ اور بیٹے کے ساتھ سجدہ اور جلالی ہے، جس نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا میں ایک، مقدس، کیتھولک اور رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں میں گناہوں کی معافی کے لیے ایک پینٹسم کا اقرار کرتا ہوں اور میں مُردوں کے جی اُٹھنے کا منتظر ہوں اور اے والی دنیا کی زندگی آمین
homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

اے رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خُدا ہمیشہ کے لیے مُبارک ہو
دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بہنو)،
کے میری اور تمہاری قربانی ہو
سکتا ہے اللہ کو قبول ہو قادر
مطلق باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے
اس کے نام کی تعریف اور جلال کے
لیے، ہماری بھلائی کے لیے اور اس
کے تمام مقدس چرچ کی بھلائی
آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م اُن کو رب کی طرف اُٹھاتے

ہیں

Basque (euskara)

Santuan sinesten dut, Jauna, bizitzako emailea, Aitaren eta Semearengandik ateratzen dena, Aita eta semea norekin adoratzeko eta glorifikatua da, profeten bidez hitz egin duena. Eliza batean, santu, katoliko eta apostoliko batean sinesten dut. Bataio bat barkamena aitortzen dut bekatuak barkatzeko eta espero dut hildakoen berpizkundea izatea eta datozen munduko bizitza. Amen.

Ostatoki

Otoitz unibertsala

Jaunari otoitz egiten diogu.

Jauna, entzun gure otoitza.

Eukaristiaren liturgia

Eskaintza

Bedeinkatu Jainkoa betiko.

Otoitza, anaiak (anai-arrebak), hori nire sakrifizioa eta zurea Jainkoarentzat onargarria izan daiteke, Aita ahalguztiduna.

Jaunak zure eskutik zure eskumena onartu dezake Bere izenaren laudorio eta ospea lortzeko, Gure onerako eta bere eliza santu guztiaren ona.

Amen.

Otoitz eukaristikoa

Jauna zurekin egon.

Eta zure espirituarekin.

Altxa zure bihotzak.

Jaunarengana altxatzen ditugu.

Urdu (اردو)

آئی م رب اپنہ خدا کا شکر ادا کریں

یہ صحیح اور منصفانہ
پاک، مقدس، پاک رب الافواج
آسمان و زمین تیرے جلال سے
معمور ہیں حسنہ اعلیٰ میں
مبارک و جو خداوند کے نام پر
آتا حسنہ اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں
ا رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ
کریں جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں
یا: جب م یہ روٹی کھاتے ہیں اور
یہ پیالہ پیتے ہیں، م تیری موت کا
اعلان کرتے ہیں، ا رب، جب تک
آپ دوبارہ نہ آئیں یا: ہمیں بچا،
دنیا کے نجات دہندے، آپ کی صلیب
اور قیامت کی طرف سے آپ نہ
میں آزاد کیا

آمین

اجتماعی رسم

نجات دہندے کے حکم پر اور خدائی
تعلیم کے ذریعے تشکیل دیا گیا،
م یہ کئی کی جسارت کرتے ہیں:
ہمارے باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام: تیری بادشاہی
آئی، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز
کی روٹی دے، اور ہماری خطائیں
معاف فرما، جیسا کہ م ان
لوگوں کو معاف کرتے ہیں جو
ہمارے خلاف گناہ کرتے ہیں اور
میں آزمائش میں نہ ڈال، لیکن
میں برائی سے بچا

میں برائی سے نجات دے، ا
رب، م دعا کرتے ہیں، م ربانی
سے ہمارے دنوں میں امن عطا

Basque (euskara)

Eskerrak eman dezagun gure Jainko
Jaunari.

Arrazoi eta zuzena da.

Santua, santua, Jaunaren jainko jainko
santua. Zerua eta Lurra zure aintzaz
beteta daude. Hosanna altuenean.
Zoriontsua da Jaunaren izenean
datorrena. Hosanna altuenean.

Fedearen misterioa.

Zure heriotza aldarrikatzen dugu, Jauna,
eta zure berpizkundea irakastea berriro
etorri arte. Edo: Ogi hau jaten dugunean
eta edalontzi hau edaten dugunean, Zure
heriotza aldarrikatzen dugu, Jauna,
berriro etorri arte. Edo: Gorde gaitzazu,
munduaren salbatzailea, zure gurutze
eta berpizkudearen arabera Aske utzi
gaitzazu.

Amen.

Komunio erritua

Salbatzailearen aginduan eta jainkozko
irakaskuntzak eratua, esatera ausartzen
gara:

Gure aita, zeruan artea, Sallowed izan
zure izena; Zure erreinua etorri da, zurea
egingo da lurrian zeruan dagoen bezala.
Eman gaur egun gure eguneroko ogia,
eta barka iezaguzu gure trukak, Gure
aurka trukutzen dutenak barkatzen
ditugunez; eta eraman gaitzazu
tentaziora, Baina entregatu gaitzazu
gaizkia.

Eman gurekin, Jauna, otoitz egiten dugu,
gaitz guztietatik, grazia grabatu bakea
gure egunetan, hori, zure errukiaren

Urdu (اردو)

فرما، ک تیری رحمت سے ہم
میشہ گنا سے آزاد ہو سکتے
ہیں اور تمام پریشانیوں سے
محفوظ جیسا کہ ہم مبارک امید
کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے
نجات دہندے، یسوع مسیح کی آمد
بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال
آپ کا اب اور میسہ کے لئے۔
خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ
کو رسولوں سے کہا: امن میں آپ
کو چھوڑتا ہوں، اپنا امن میں آپ
کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت
دیکھو لیکن آپ کے چرچ کے ایمان
پر، اور فضل سے اس امن اور
اتحاد عطا فرمائے، آپ کی مرضی
کے مطابق۔ جو میسہ اور ابد تک
زندہ اور حکومت کرتے ہیں
آمین

خداوند کی سلامتی میسہ آپ کے
ساتھ رہے

اور اپنی روح کے ساتھ
آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان
پیش کریں

خدا کے بڑے، تم دنیا کے گناہوں کو
دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا
کے بڑے، تم دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے
بڑے، تم دنیا کے گناہوں کو دور
کرتے ہو، ہمیں امن عطا فرما۔

خدا کے بڑے کو دیکھو، اس کو
دیکھو جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا
مبارک ہیں وہ لوگ جو بڑے کے
عشائے کے لیے بلائے گئے ہیں

اے رب، میں اس لائق نہیں ہوں
کہ تم میری چہت کے نیچے داخل
ہو، لیکن صرف لفظ کے ساتھ اور
میری جان ٹھیک ہو جائے گی
مسیح کا جسم (خون)

Basque (euskara)

laguntzaz, Baliteke beti bekatutik libre
izatea eta atsekabe guztietatik seguru,
Zorioneko itxaropena itxaroten dugun
heinean Eta gure Salbatzailearen
etorrera, Jesukristo.

Erresumarentzat, boterea eta aintza
zureak dira orain eta betiko.

Jesukristo Jauna, Nork esan zure
apostoluei: Bakea uzten dizut, nire bakea
ematen dizut, Ez begiratu gure bekatuak,
Baina zure elizaren fedeari buruz, eta
graziaz ematen dio bakea eta batasuna
zure borondatearen arabera. Betiko eta
inoiz bizi eta errege bizi direnak.

Amen.

Jaunaren bakea zurekin egon beti.

Eta zure espirituarekin.

Esan diezaiozun elkarri bakearen seinale.

Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatuak
kentzen dituzu, erruki gaitzazu.

Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatuak
kentzen dituzu, erruki gaitzazu.

Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatuak
kentzen dituzu, beka eman diezazu.

Begira Jainkoaren Bildotsa, Horra hor
munduko bekatuak kentzen dituenak.
Zorionekoak dira arkumearen afariari
deitzen zaizkionak.

Jauna, ez naiz merezi nire teilatu azpian
sartu beharko zenukeela, Baina hitza
bakarrik esan eta nire arima sendatu
egingo da.

Kristoren gorputza (odola).

Urdu (اردو)

آمین

میں نماز پڑھنے دو۔

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

قادر مطلق خدا آپ کو خوش

رکھ، باپ، اور بیٹا، اور روح

القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا

یا: جاؤ اور خداوند کی انجیل کا

اعلان کرو یا: سکون سے جاؤ،

اپنی زندگی سے خداوند کی تمجید

کرو یا: سکون سے جاؤ

خدا کا شکر

Basque (euskara)

Amen.

Otoitz egin dezagun.

Amen.

Erritteak amaitzea

Bedeinkapena

Jauna zurekin egon.

Eta zure espirituarekin.

Jainko ahalguztidunak bedeinka zaitzala,

Aita, semea, eta Espiritu Santua.

Amen.

Kaleratzea

Zoaz, masa amaitu da. Edo: joan eta

jakinarazi Jaunaren ebanjelioa. Edo: joan

bakean, Jauna zure bizitzan glorifikatuz.

Edo: bakean joan.

Eskerrik asko Jainkoari.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC